


# چھوٹے بچوں کے لیے مستند تشخیصات کا اہل خانہ کا رہنما کتابچہ



مستند تشخیصات کیا ہیں؟

مستند تشخیصات وہ طریقہ کار ہیں جن کا استعمال اساتذہ کی ٹیم روزانہ یہ سمجھنے کے لیے کرتی ہے

- بچے کیا جانتے ہیں۔
- بچے کس طرح نشوونما پا رہے ہیں۔
- بچوں کے فروغ میں یہ کیا مدد کر سکتے ہیں۔

مستند تشخیصات کس طرح کام ہیں؟

گھر پر، آپ چیزوں کی روزانہ تشخیص کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھنے کے لیے معلوم کرتے ہیں کہ آپکے بچے کی طبیعت کی اتنی اچھی ہے کہ اسکول جایا جائے۔ آپ کھیل کے میدان جا کر یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دوستوں سے کیسے تعلقات ہیں اور کن چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان مشاہدات سے آپ کو اپنے بچے کو سمجھنے میں اور انکی مسلسل نشوونما میں مدد ملے گی۔ آپ کے بچے کے اساتذہ مستند تشخیصات کے استعمال کے ذریعے کچھ ایسے ہی کرتے ہیں۔

تدریسی ٹیم بچوں کے کاموں کو جمع کرتی ہیں، بچوں کی پڑھتے اور کھیلتے ہوئے تصویریں لیتی ہیں اور اسکول میں دن بھر کی مصروفیات کا مشاہدہ کرتی ہیں (مثلاً، بیچ کے وقت کے دوران، باہر، چھوٹے گروپ میں وغیرہ)۔ تدریسی ٹیم ان معلومات کو یہ سمجھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں ہر بچہ اپنی نشوونما میں مدد کے لیے کیا کر رہا ہے

مستند تشخیصات کی معلومات کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟

مستند تشخیصات کو آپکے بچے کی سوچ، نشوونما اور پڑھائی کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے خاندانوں، اساتذہ اور پروگراموں کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔

آپ اپنے بچے کی مستند تشخیصات کے اعداد و شمار کو ذیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں:

- یہ سمجھنا کہ آپ کس طرح اپنے بچے کی نشوونما اور افزائش میں بہتر طریقہ سے مدد کر سکتے ہیں۔
- یہ سمجھنا کہ آپکا بچہ کس طرح کلاس روم میں بہترین طریقے سے سیکھتا ہے۔
- اساتذہ کی ٹیم مستند تشخیصات کے اعداد و شمار کو ذیل کے لیے استعمال کر سکتی ہیں:
- اپنے بچے کی قابلیت کو تعین کرنا کہ کس طرح اپنی افزائش کے تسلسل کے لیے فیصلہ کرنے کرتا ہے۔
- اپنے بچے کی صلاحیت اور دلچسپی کی بنیاد پر روزانہ کے معمولات کی منصوبہ بندی کرنا، مثلاً:
  - کلاس روم کے لیے کسی صلاحیت یا سوچ کو سمجھنے کے لیے کتاب کا انتخاب کرنا۔
  - باہر صرف کیے گئے وقت کے لیے مخصوص سرگرمیوں کے لیے جس سے بچے کی دوسروں کے ساتھ پرلطف طریقے سے ملکر کام کرنے کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی ہو۔
  - ایسی سرگرمیوں کی رہنمائی کریں جس سے آپ کے بچے کی سماجی اور جذباتی صلاحیتیں بڑھیں جیسے دوسروں کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں اور دوسروں کو سمجھنا کہ وہ کیا احساسات رکھتے ہیں۔
- کام کے نمونوں اور رپورٹ کو استعمال کر کے کانفرنس کے دوران دوسرے خاندانوں کے ساتھ رابطہ کریں۔
- پروگرامز پروگرامز مصدقہ تشخیصات کے اعداد و شمار کو ذیل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں:
- بچوں کی تعلیمی ضروریات کی اعانت کے لیے چیزیں آرڈر کرنا۔
- اساتذہ ٹیم کی مدد کے لیے ایسے ذرائع کی نشاندہی کرنا جس سے وہ سارے بچوں کی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں

## افزائش کے کن شعبوں کی تشخیصات کی جاتی ہیں؟

- نو عمر بچوں کی ترقی کی تشخیصات زیادہ تر پانچ باتوں یا "شعبوں" میں منقسم کرتے ہیں۔
- تعلیم کی طرف رجحان - بچے کس طرح تعلیمی تجربہ میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم کیونکہ جس طریقے سے بچے تعلیمی کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے اثرات انکی ترقی کے تمام پہلو پر پڑتے ہیں۔
- سماجی اور جذباتی ترقی - بچے کس طرح تعلقات بناتے ہیں اور جذبات کو سمجھتے ہیں اور ان پر قابو پاتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں تا حیات ترقی اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔
- زبان، خواندگی اور ابلاغ - بچے کس طرح اپنی ابھرتی ہوئی زبان کی خواندگی کی صلاحیتیں اور دیگر ذرائع ابلاغ کو سننے، سمجھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔
- ادراک - بچے اپنے ارد گرد کو سمجھنے اور پہچاننے میں ریاضی، فن، سائنس اور معاشرتی علوم کی صلاحیتیں اور نظریات کو استعمال کرتے ہیں۔
- جسمانی نشونما اور صحت - وہ صلاحیتیں جنہیں بچے اپنا کر جسم پر قابو پا کر حرکت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ماحول میں محفوظ رہتے ہیں۔

یہ اہم ہے کہ تعلیمی ٹیم ان شعبوں کو مشاہدات اور کام کے نمونوں کے تجزیہ سے جانچ کرے تاکہ آپ کے بچے کو بہترین طریقے سے سمجھیں اور تمام ضروری معاونت فراہم کر سکیں۔۔۔ براہ کرم توجہ کریں کہ ہو سکتا ہے کہ جن شعبوں کی اوپر وضاحت کی گئی ہے وہ آپ کے استعمال میں آنے والے پروگراموں کے طریقوں سے مختلف ہوں۔

## آپ مستند تشخیصات میں کیا مدد کر سکتے ہیں؟

آپ اپنے بچے کو سب سے زیادہ اچھا جانتے ہیں! اپنے بچے کے استاد سے اکثر ملتے رہیں۔ مل کر کام کرنے سے یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ آپ کے بچے کے فروغ اور نشونما کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔

- آپ اپنے بچے کے استاد کو اس کی دلچسپی اور صلاحیتوں کے بارے میں معلومات میں شریک کر سکتے ہیں۔
- آپ انکے استاذ سے اپنے بچے کی نشونما کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ اس سے آپکو اور آپکے بچے کے استاد کو مل کر کام کرنے کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- اپنے بچے کے استاد سے مستند تشخیصات کے بارے میں معلوم کریں اور انکے تجاویز کو کھلے دل سے سنیں۔

آپ تک پہنچایا ہے [The Division of Early Childhood Education](http://The Division of Early Childhood Education)

ای میل: [earlychildhood@schools.nyc.gov](mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov)

آپ 3-K فار آل اور پری کے فار آل کے بارے میں معلومات ہماری ویب سائٹ پر تلاش کر سکتے ہیں۔

[پری کے فار آل میں ادراج کرائے](#)

3-K فار آل میں ادراج کرائے